

دریاؤں میں نہانا جان لیوا ہے

پانی میں نہ جائیں کنارے پر رہیں

کیوں؟

خطرناک

„3S“

کی وجہ سے

Strömungen بہاؤ

Strudel بہنور

Schiffe بحری جہاز

پانی کا بہاؤ آپ کو کنارے سے دور لے جائے گا

بہنور آپ کو گہرائی کی طرف کھینچ لے گا

اور گزرتے ہوئے بحری جہازوں کی لہریں آپ کو مقناطیس کی طرح گہرائی کی طرف کھینچ سکتی ہیں

باہر گرمی ہے اور آپ ٹھنڈے پانی میں جانا چاہتے ہیں؟

تو پھر چلتے ہیں گراوس گراؤ کے سوئمنگ پولز اور نہانے والی جھیلوں کی طرف

ZDF کی لوگو ویڈیو میں اس کے بارے میں اچھی طرح سے وضاحت کی گئی ہے

<https://www.zdf.de/kinder/logo/erklaerstueck-baden-in-fluessen-100.html>

خاص طور پر اس وقت جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے لوگ بڑے شوق سے رائن یامائین میں اپنا وقت گزارنا پسند کرتے ہیں

لیکن دھیان میں رہے یہ نہ ذہن سے نکلے کہ دریا میں نہانا خود پانی میں بچاؤ کی ٹیموں یا جرمن لائف سیونگ سوسائٹی کے لئے بھی خطرناک ہو سکتا ہے

ان جیسے بڑے دریاؤں میں جیسے کہ رائن اور مائین ان میں اور بھی زیادہ خطرات ہوتے ہیں

- بہاؤ

بہاؤ ایک تیراک کو پوری طاقت اور رفتار سے کنارے سے دور لے جاتا ہے انسان کے پاس بغیر کسی دوسرے کی مدد کے واپس آنے کا موقع نہیں ہوتا
بہاؤ بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے

- بہنور

بہنور بہت برے ہوتے ہیں وہ پانی کی نچلی سطح پر چھپے رہتے ہیں وہ نظر نہیں آتے اور حیران کن طور پر بہنور انسان کو پانی میں نیچے کی طرف کھینچ لیتے ہیں

- بحری جہاز


رائن اور مائین مال بردار بحری جہازوں کے لئیے ایک طرح کی بڑی شاہراہیں ہیں یہ بحری جہاز مسلسل پانی کے اندر چلتے ہوئے اوپر نیچے حرکت کرتے ہوئے سفر کرتے ہیں اس وجہ سے پانی میں طاقتور لہریں پیدا ہوتی ہیں یہ لہریں مقناطیس کی طرح کام کرتی ہیں یہ لہریں ہر چیز کو یہاں تک کے انسانوں کو بھی بحری جہازوں کے نیچے کی طرف لے جا سکتی ہیں

آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہئے جب آپ ایک انسان کو پانی میں خطرے میں دیکھیں ؟
o فوری طور پر 112 پر کال کریں
o اس جگہ کی نشاندہی کریں جہاں آپ کھڑے ہیں
(نشان کنندہ تختیاں جو پانی میں الفاظ کے ساتھ لکھی ہوتی ہیں)



o سب سے اہم بات اس وقت پانی میں جانا خطرناک ہوتا ہے

اس کا کیا مطلب ہے؟ دریا پہ: کنارے پر رہو
کیا پانی میں جانا چاہتے ہیں؟ تو ٹھیک ہے پھر سوئمنگ پول چلو جو نہانے والی جھیلوں پر ہیں
یا اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کا یہ اچھا طریقہ نہیں؟



اب آپ کے پاس مکمل معلومات ہیں
آپ رہنما بنیں اور اپنے دوستوں گھر والوں اور جاننے والوں کی رہنمائی کریں اس معلومات کے ساتھ:
! جو آپ حاصل کر چکے ہیں
اس طرح سے آپ بہت سی زندگیاں بچانے میں مدد کر سکتے ہیں